

نفع کی یکسانیت کے لئے مختص رقم اور انویسمنٹ رسک ریزرو

1- نفع کی یکسانیت کے لئے مختص رقم: Profit Equalization Reserve

- i. PER ایک نظام ہے جو آمدی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پرافٹریٹس میں پیدا ہونے والے تغیر اور مضاربہ پول کے مکمل ڈپازٹس میں حرکت کو اعتدال پر لانے کا کام انجام دیتا ہے۔
- ii. PER کا قیام اسکو یقینی بنانے کے لئے ہے کہ FBL IBD پرافٹریٹس یکساں اور مستحکم رہیں۔ ڈپازٹریز اور انویسٹریز کو مفع ہو یکلی صورت میں FBL IBD ڈپازٹریز اور انویسٹریز کے نفع کے ریٹ میں اضافہ کرنے اور مستحکم رکھنے کے لئے PER کو استعمال کرنے/نکلنے کا انتخاب کر سکتا ہے اور زیادہ نفع کے حصوں کے وقت ممکن ہے کہ FBL IBD پول کیجا لاص نفع میں سینکال کر کے PER میں شامل کر کے اس میں اضافہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ PER ایک طویل مدت تک مضاربہ کے منافع کو استحکام فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
- iii. FBL IBD پول کے خالص نفع سے پرافٹ ایکول لائزنس ریزرو (PER) کا بندوبست کرے گا، یعنی گراس اکٹ سے براہ راست اخراجات اور نقصانات کو منہا کر کے، اگر ہوں۔
- iv. مضارب اور رب المال کے تعلق کے درمیان توازن کو یقینی بنانے کے لئے PER میں ماہنہ چندہ خالص نفع کے 2% سے زائد ہو گا اور PER کی مجموعی رقم FBL IBD فنڈ کے 30% سے زائد نہیں ہو گی۔
- v. FBL IBD کی بکس میں PER میں وستیاب 50% رقم کو ٹیکیو ٹریٹی کے طور پر اور باقی ماندہ 50% رقم کو ریزرو کے طور پر ظاہر کیا جائے گا۔
- vi. PER کی رقم کو شریعت کے مطابق SLR کے قابل ٹیکیو ٹریٹی میں لگایا جائے گا اور ان سیچاصل شدہ منافع کو PER کا ونٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ PER کے انتظام کی وجہ سے بطور مضارب FBL IBD کا منافع کی تقسیم میں حصہ (PSR) 10% سے زائد نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر PER سرو روپے کماتا ہے تو FBL IBD مضارب کی خدمت فراہم کرنے کی وجہ سے 10 روپے PSR کے طور پر وصول کرے گا۔ 90 روپے PER کے پول میں منتقل کر دیئے جائیں گے۔
- vii. FBL IBD کامل یا جزوی طور سے PER کی رقم کو ڈپازٹریز کے منافع میں اضافہ کے لئے استعمال کر سکتا ہے جس دوران پول کا منافع، مارکیٹ کی توقعات سے کم ہو۔
- viii. PER سے متعلقہ شقیں اکاؤنٹ اونٹ اونٹنگ فارم یا اس مقصد کے لئے دیگر دستاویز کا حصہ ہیں۔
- ix. PER یکسانیت برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور نقصان کی صورت میں PSL ڈپازٹریز/انویسٹریز کے لئے راس المال یا منافع کی گارنیٹیں ہیں ہے۔

1.1 PER کا اکاؤنٹ اور اظہار PER Accounting and Disclosures

صحیح طور سے اکاؤنٹس بنانے کا بندوبست کرے گا اور PER کے اتار چڑھاؤ کو AAOIFI اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے مطابق سالانہ اکاؤنٹس میں ظاہر کرے گا۔

2۔ انویسٹمنٹ رسک ریزرو (IRR) Investment Risk Reserve (IRR)

- i. جیسا کہ FBL IBD کے ساتھ مضاربہ کے انتظام میں رب المال ہونے کی حیثیت سے ڈپازیٹر، فنا نگار اور انویسٹمنٹ پورٹفولیو کے کریڈٹ اور مارکیٹ رسک کو برداشت کریں گے، یہاں ایسی صورتحال پیش آسکی ہے کہ جس میں غیر معمولی بڑے Write-offs اور/ یا پول کی انویسٹمنٹس کی فروختگی پر بھاری خسارے کی وجہ سی پول کو لازمی نقصانات برداشت کرنا پڑیں، تو ایسے نقصانات کے تدارک/ تلافی کے لئے FBL IBD انویسٹمنٹ رسک ریزرو (IRR) کا قیام عمل میں لاسکتا ہے جو مستقبل میں انویسٹمنٹ کے نقصانات کا احاطہ کرے اور IRR کے چم اور IRR کی تشكیل کے لئے دینے جانے والے میعادی چندہ (Periodic Contribution) کی تعین کرنے بنا دوں اور ماڈل کو تیار کر سکتا ہے۔ ماڈل کی تجیل ہونے تک، FBL IBD ہر پرافٹ پیریڈ میں پول کے ڈپازیٹر کے درمیان تقسیم کے لئے مستیاب نفع میں سے مضارب کے حصہ کی کوتی کے بعد 1% کی حد تک IRR کے لئے چندہ دے سکتا ہے۔
- ii. اگر IRR کا قیام عمل میں لا یا گیا تو اسکو FBL IBD کی بکس میں الائٹی کے طور پر ظاہر کیا جائے گا۔
- iii. IRR کی رقم کو شریعت کے مطابق SLR کے قابل سکیو ریز میں لگایا جائے گا اور ان رقم سے حاصل شدہ منافع کو IRR کا ونٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ IRR کے انتظام کی وجہ سے بطور مضارب FBL IBD کا منافع کی تقسیم میں حصہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر IRR 100 روپے کماتا ہے تو FBL IBD مضارب کی خدمت انجام دینے کی وجہ سے 10 روپے وصول کرے گا۔ 90 روپے IRR پول میں منتقل کر دینے جائیں گے۔
- iv. اگر پول کو کوئی نقصان لاحق ہوا تو اس کی تلافی IRR میں مستیاب رقم سے کی جائے گی۔
- v. IRR سے متعلقہ شقیں اکاؤنٹ اوپنٹ فارم یا اس مقصد کے لئے دیگر دستاویز کا حصہ ہیں۔